

# فتاویٰ علماء ہند

جلد - ۱۴

## کتاب الصلاة

علماء ہند و پاک کے دو سو سالہ کتب فتاویٰ کا مجموعہ

ترتیب، تحقیق، تعلق

حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن قاسمی

ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، پھلواری شریف پٹنہ

زیرنگرانی

مولانا محمد اسامہ شمیم ندوی

رئیس المجلس العالمی للفقہ الإسلامی

باہتمام

منظمة السلام العالمية، ممبائی، الہند

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب	:	فتاویٰ علماء ہند (جلد - ۱۴)
ترتیب، تحقیق، تعلق	:	حضرت مولانا مفتی انیس الرحمن قاسمی صاحب
سن اشاعت	:	جون ۲۰۲۰ء
تعداد اشاعت	:	ایک ہزار
کمپوزنگ و ڈیزائننگ	:	محمد رضا اللہ قاسمی
ناشر	:	منظمة السلام العالمية، ممبائی، الہند

یہ کتاب ”منظمة السلام العالمية“ کی  
طرف سے ہدیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے  
وقف ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

منظمة السلام العالمية

Global Peace Organisation (GPO)

Jama Masjid Sector - 14, Koper Kherne, Navi Mumbai - 400709

E-mail : info@thegpo.org.in - Wbsite : www.thegpo.org.in

Mob :. +91 - 7303 7076 05

## کتاب الصلاة

۱۰۸	--	۴۳	سجدہ سہو سے متعلق متفرق مسائل
۱۶۸	--	۱۰۹	سجدہ تلاوت کے احکام
۳۹۶	--	۱۶۹	مسافر کی نماز کے مسائل
۴۴۶	--	۳۹۷	معذور اور مریض کی نماز کے مسائل
۴۵۶	--	۴۴۷	جمعہ کی فضیلت
۴۶۴	--	۴۵۷	نماز جمعہ کی فرضیت
۶۲۲	--	۴۶۵	شرائط جمعہ اور اس کے مسائل

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### قال الله عز وجل:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

(سورة الجمعة: ٩)

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنَّهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ ظَنَّهُ أَنَّهَا ثَلَاثًا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ ظَنَّهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السُّهُوِ.

(كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، رقم الحديث:)

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه.

(صحيح البخاري، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة: ١٤٦١، قديمي، أنيس)

عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين وصليت معه السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاً والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين.

(سنن الترمذي، باب ماجاء في التطوع في السفر: ١٢٣١، قديمي، أنيس)

عن جابر بن عبد الله قال: "عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضاً وأنا معه فراه يصلي ويسجد عليّ وسادة فنهاننا وقال: "ان استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد والا فأوم ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع.

(رواه البزار، إعلاء السنن: ١٧٨ / ٧)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

(الصحيح لمسلم، فصل في فضيلة يوم الجمعة على باقي الأيام: ٢٨٢١، قديمي، أنيس)